

برائے فوری اجراء

ایٹوبیکوک کریک ریکرینیشنل ٹریل کا نیا بین علاقائی کنیکشن ملاحظہ کریں!

برامپٹن، آن (6 جولائی 2021) – ایٹوبیکوک کریک ریکرینیشنل ٹریل کا برامپٹن سے مسیساگا اور کیلیڈن تک کا انتہائی متوقع شدہ بین علاقائی کنیکشن اب مکمل ہو چکا ہے۔ صارفین اب تین کمیونٹیوں کے درمیان مسلسل چل سکتے ہیں، ہائیک کر سکتے ہیں اور سائیکل چلا سکتے ہیں۔

دو کلومیٹر پر مشتمل نیا بین علاقائی کنیکشن برامپٹن اور مسیساگا کے درمیان ٹریل میں ایک اہم خلاء کو پر کرتا ہے اور ہائیوے 407 اور ہائیوے 410 کے نیچے سے کینیڈی روڈ ٹریل کے داخلی راستے سے شہر کی حد تک گزرنے کا محفوظ راستہ دیتا ہے۔ یہ سڑک کے علاوہ نقل و حمل کا مسلسل فعال راستہ فراہم کرتا ہے، جو لیک اونٹاریو اور واٹر فرنٹ ٹرین کو کیلیڈن میں گرین بیلٹ ٹریل کے ساتھ جوڑتا ہے۔

برامپٹن میں، یہ ٹریل ڈاؤن ٹون کور سے گزرتی ہے اور وسیع اقسام کی ثقافتی اور موسمیاتی سرگرمیوں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ پوری ایٹوبیکوک کریک ریکرینیشنل ٹریل تقریباً 34.5 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور ایٹوبیکوک میمیکو واٹر شیڈ کے ساتھ اور قدرتی اور شہری علاقوں سے گزرتی ہے۔ ٹریل کے ماحولیاتی فوائد کو بڑھانے کے لیے کینیڈی ویلی میں TRCA اور سٹی کی جانب سے 4,000 سے زائد درخت اور 14,000 سے زائد جھاڑیاں لگائی گئی ہیں۔

یہ قدم سٹی آف برامپٹن، ٹورانٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی (TRCA)، ریجن آف پیل، ٹاؤن آف کیلیڈن، سٹی آف مسیساگا اور منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن کے درمیان ایک مشترکہ کوشش تھا۔

یہ کنیکشن سٹی کے ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پلان کو فروغ دیتا ہے، جس کا مقصد پورے شہر میں سائیکلنگ اور پیدل راستوں کا ایک مربوط نیٹ ورک بچھانا اور ہمسایہ کمیونٹیوں کے ساتھ جڑنا ہے، تاکہ بلا موٹر ذرائع سے محفوظ تر اور زیادہ آسان سفر کو ممکن بنایا جاسکے اور سائیکل چلانے کے محفوظ، پرکشش اور مربوط راستے بنائے جاسکیں۔ سٹی کے ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پلان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، www.brampton.ca/atp ملاحظہ کریں

ایٹوبیکوک کریک ریکرینیشنل ٹریل کے تین کلومیٹر، جو کینیڈی روڈ ٹریل کے داخلی راستے سے شروع ہوتے ہیں اور سٹی کی حد پر ختم ہوتے ہیں، کو کوک کینیڈا ہائلنگ نے اسپانسر کیا ہے۔ یہ برامپٹن میں تفریحی راستے کے لیے سٹی کے پہلے کاورباری اسپانسر ہیں اور راستے کی مسلسل دیکھ بھال میں کردار ادا کریں گے۔ اسپانسرشپ کے مواقع کے بارے میں www.brampton.ca/sponsorship پر مزید جانیں۔

اقتباسات

"مجھے ایٹوبیکوک کریک ریکرینیشنل ٹریل کے بین علاقائی کنیکشن کے مکمل ہونے کا اعلان کرنے پر خوشی ہے۔ برامپٹن ایک ماحول دوست شہر ہے اور ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم سائیکلوں اور پیدل چلنے کے لیے ایک دوستانہ کمیونٹی بننے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ فعال رہیں اور ٹریل کو دریافت کریں۔ ہمارے شراکت داروں اور اسپانسر کا شکریہ!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سائیکلنگ کی ایک شوقین کے طور پر، میں نئے ایٹوبیکوک کریک بین علاقائی ٹریل کنیکشن کے متعلق پرجوش ہوں، جو کئی کمیونٹی کے درمیان فعال نقل و حمل کا مسلسل اور محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ برامپٹن کی خوبصورت اور دلکش ٹریلز سے لطف اندوز ہوں – بے شک ہائیک پر، ہائیکنگ کرتے ہوئے یا چلتے ہوئے۔" - رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہمیں ایٹوبیکوک کریک کنیکشن کو حقیقت بنانے اور برامپٹن میں فعال نقل و حمل کو فروغ دینے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر فخر ہے۔ ہر شخص کے لیے باہر جانا اور ہمارے پارکس اور ٹریلز سے لطف اندوز ہونا بہت اہم ہے اور ایٹوبیکوک کریک ٹریل ایک انتہائی ہی دلکش نظارہ ہے!"

- شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ برامپٹن میں فعال نقل و حمل کے مواقع کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے کمیونٹی شراکت داروں اور ہماری ٹریل کے پہلے کاور باری اسپانسر، کوک کینیڈا ہائلنگ، کا شکر یہ۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ٹریل پر تشریف لائیں اور برامپٹن میں اسپانسرشپ کے مواقع کے بارے میں مزید جانیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"TRCA کو ایٹوبیکوک کریک ریکرینیشنل ٹریل کے اندر برامپٹن اور مسیساگا کے درمیان دو کلومیٹر کے کنیکشن کی تکمیل کا جشن منانے پر خوشی ہے۔ یہ نئی بنی ہوئی ٹریل برامپٹن، مسیساگا اور کیلیڈن کی کمیونٹیوں کو جوڑتی ہے اور لیک اونٹاریو میں واٹر فرنٹ ٹریل سے لے کر کیلیڈن میں گرین ہیلٹ تک سڑک سے دور محفوظ، پیدل کنیکشن فراہم کرتی ہے۔ یہ رہائشیوں کو قدرت اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں مدد دے گی اور کمیونٹی، تفریح، فعال نقل و حمل اور صحت بخش طرز زندگی کے مواقع فراہم کرے گی۔"

- جینیفر انیس، چیئر، TRCA بورڈ آف ڈائریکٹرز

"ہم اس سال برامپٹن کے مقامی ہائلز کے 20 سال منا رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم پرجوش ہیں کہ یہ ٹریل ہماری سہولت گاہ کے بالکل ساتھ سے گزرے گی، تاکہ ہماری مقامی کوک کینیڈا کے تمام 1,300 ملازمین، جو فخر کے ساتھ کینیڈا کے پسندیدہ ترین مشروبات یہاں برامپٹن میں بناتے، تقسیم کرتے، تجارت کرتے اور فروخت کرتے ہیں، باہر نکل سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔"

- بریڈن نونان، برامپٹن جنرل مینیجر، کوک کینیڈا ہائلنگ

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca